



## Course Contents for Subjects with Code: ISE

This document only contains details of courses having code **ISE**.



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-101	Tafseer-I	3	I
Year	Discipline		
1	Islamic Education		

## تفسیر-I

- ۱۔ علم تفسیر کا تعارف
  - ۲۔ علم تفسیر کی ضرورت و اہمیت
  - ۳۔ اردو کتب تفسیر کا اجمالی تعارف
- تفسیر حقانی، بیان القرآن، تفسیر ماجدی، تفسیر ثنائی، تفسیر عثمانی، معارف القرآن، تفہیم القرآن، تدبر قرآن، ضیاء القرآن
- منتخب قرآنی سورتیں
- I سورة البقرة (آخری بیس رکوع)
  - سورة البقرة کے مندرجہ ذیل عنوانات
  - قصاص و دیت۔ حرمت خمر۔ ایلاء۔ طلاق۔ خلع۔ عدت۔ رضاعت۔ مہر۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ حرمت ربوا۔ جہاد فی سبیل اللہ اور حلال و حرام
  - II سورة الحجرات
  - III سورة الحديد
  - ☆ لفظی ترجمہ
  - ☆ شرح مفردات
  - ☆ مختصر تشریح
- مجوزہ کتب
- محمد بن جریر، طبری، جامع البیان عن تاویل ای القرآن
- رازی، محمد بن عمر، مفتاح الغیب
- زنجشیری، محمود جارا اللہ، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل
- ابوبکر حصص، احکام القرآن
- ابن العربی، احکام القرآن
- ابن کثیر، ابوالفداء، اسماعیل بن کثیر، تفسیر القرآن العظیم
- علامہ آلوسی، سید محمود، روح المعانی
- سید رشید رضا، تفسیر المنار
- سید قطب، فی ظلال القرآن
- اشرف علی تھانوی، بیان القرآن



شبیر احمد عثمانی، تفسیر عثمانی  
دریابادی، عبدالماجد، تفسیر القرآن الحکیم  
ابوالکلام آزاد، ترجمان القرآن  
مفتی محمد شفیع، معارف القرآن  
کاندھلوی، مولانا محمد ادریس، معارف القرآن  
مودودی، سید ابوالاعلیٰ، تفہیم القرآن  
حقانی، مولانا عبدالحق، تفسیر حقانی  
اصلاحی، مولانا امین احسن، تدبر قرآن  
کرم شاہ، پیر محمد، ضیاء القرآن



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-102	Hadith-I	3	I
Year	Discipline		
1	Islamic Education		

### حدیث نبوی-I

سنت و حدیث کا معنی و مفہوم

سنت و حدیث کی اہمیت

سنت و حدیث کی حجیت

مشہور کتب احادیث کا تعارف

الجامع الصحیح للبخاری، الجامع الصحیح لمسلم، سنن الترمذی، سنن ابی داؤد، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ

مطالعہ متن حدیث

۱۔ الجامع الصحیح للبخاری کی کتاب الایمان سے ۵ منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح

۲۔ الجامع الصحیح للبخاری کی کتاب الصلوٰۃ سے ۵ منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح

۳۔ الجامع الصحیح لمسلم کی کتاب الزکاة سے ۱۰ منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح

۴۔ سنن ابی داؤد کی کتاب الصوم سے ۱۰ منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح

۵۔ سنن الترمذی کی کتاب الحج سے ۱۰ منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح

۶۔ ریاض الصالحین کے درج ذیل ابواب کی پہلی دس احادیث

الف۔ باب فضل الزہد فی الدنیا والحف علی القفل منھا و فضل الفقر

ب۔ باب فضل الذکر والحف علیہ

ج۔ کتاب الدعوات

مقررہ کتب

البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح

مسلم بن حجاج القشیری، الجامع الصحیح

ابوداؤد، سلیمان بن اشعث، السنن

الترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ، السنن

النووی، یحییٰ بن شرف، ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین



## مجوزہ کتب

د/مصطفیٰ السباعی، السنة و مکانتها فی التشريع الاسلامی

مودودی، سید ابوالاعلیٰ، سنت کی آئینی حیثیت

گیلانی، مناظر احسن، تاریخ تدوین حدیث

ڈاکٹر خالد علوی، حفاظت حدیث

عثمانی، محمد فہیم، حفاظت و حجیت حدیث

عبدالخالق، عبدالغنی، حجیت حدیث



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-103	Tafseer-II	3	II
Year	Discipline		
1	Islamic Education		

## تفسير-II

I- سورة آل عمران

II- سورة النحل

☆ لفظی ترجمہ ☆ شرح مفردات

☆ آیات الاحکام کی توضیح

مجوزہ کتب

طبری، محمد بن جریر، جامع البیان عن تاویل ای القرآن

رازی، محمد بن عمر، مفتاح الغیب

زنجیری، محمود جارا اللہ، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوہ التاویل

ابوبکر جصاص، احکام القرآن

ابن العربی، احکام القرآن

ابن کثیر، ابوالقداء، اسماعیل بن کثیر، تفسیر القرآن العظیم

علامہ آلوسی، سید محمود، روح المعانی

رضا، سید رشید، تفسیر المنار

سید قطب، فی ظلال القرآن

تھانوی، اشرف علی، بیان القرآن

عثمانی، شبیر احمد، تفسیر عثمانی

دریابادی، عبدالمجید، تفسیر القرآن الحکیم

آزاد، ابوالکلام، ترجمان القرآن

محمد شفیع، مفتی، معارف القرآن

کاندھلوی، مولانا محمد ادریس، معارف القرآن

مودودی، سید ابوالاعلیٰ، تفہیم القرآن

حقانی، مولانا عبدالحق، تفسیر حقانی

اصلاحی، مولانا امین احسن، تدبر قرآن

کرم شاہ پیر محمد، ضیاء القرآن



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-104	Hadith-II	3	II
Year	Discipline		
1	Islamic Education		

## حدیث نبوی-II

- ☆ معاملات کے ضمن میں محمد فواد عبدالباقی کتاب اللؤلؤ والمرجان کی مندرجہ ذیل کتب کے ابتدائی دس دس ابواب
- ۱۔ کتاب المیوع
  - ۲۔ کتاب الامارہ
  - ۳۔ کتاب الجہاد
  - ۴۔ کتاب البر والصلہ
  - ۵۔ مشکوٰۃ المصابیح کی کتاب آداب کے پہلے دس ابواب کی پہلی پہلی حدیث
  - ۶۔ ریاض الصالحین کی کتاب الفضائل کے پہلے تین ابواب
- مقررہ کتب

عبدالباقی، محمد فواد، اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیہ الشیخان  
التبریزی، محمد بن عبد اللہ الخطیب، مشکوٰۃ المصابیح  
النووی، یحییٰ بن شرف، ریاض الصالحین

## مجوزہ کتب

- ۱۔ العسقلانی، ابن حجر، احمد بن علی، فتح الباری
- ۲۔ نووی، یحییٰ بن شرف، شرح نووی (الجامع الصحیح لمسلم)
- ۳۔ انور شاہ کشمیری، فیض الباری
- ۴۔ عثمانی، شبیر احمد، فتح الملہم
- ۵۔ ملا علی قاری، علی بن سلطان، المرقاۃ شرح المشکوٰۃ
- ۶۔ کاندھلوی، محمد ادریس، التعلیق الصبیح شرح مشکوٰۃ المصابیح
- ۷۔ سہارنپوری، مولانا خلیل احمد، بذل المجہود شرح سنن ابی داؤد
- ۸۔ ابو عبد الرحمن شرف الحق، عون المعبود شرح سنن ابی داؤد
- ۹۔ بنوری، مولانا یوسف، معارف السنن شرح سنن الترمذی
- ۱۰۔ علامہ عینی، بدر الدین، عمدۃ القاری
- ۱۱۔ ابن الاثیر، مبارک بن محمد، جامع الاصول



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-105	Seerat un Nabi	3	II
Year	Discipline		
1	Islamic Education		

### سیرت النبی ﷺ

- ۱۔ ماخذ سیرت (قرآن، کتب احادیث و آثار، کتب مغازی و سیر، کتب تاریخ و وثائق وغیرہ)
- ۲۔ بعثت نبوی سے قبل اقوام عالم اور بالخصوص جزیرہ عرب کے حالات
- ۳۔ بعثت سے قبل رسول کریم کی زندگی پر طائرانہ نظر (پیدائش تا بعثت)
- ۴۔ بعثت تا ہجرت
- ۵۔ ہجرت مدینہ
- ۶۔ میثاق مدینہ
- ۷۔ غزوات کی نوعیت، مقاصد اور حکمت عملی، صلح حدیبیہ
- ۸۔ فتح مکہ
- ۹۔ حجۃ الوداع
- ۱۰۔ انقلاب نبوی

### مجوزہ کتب

- ابن ہشام، السیرۃ النبویہ ﷺ  
 ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الکبریٰ  
 الطبری، ابن جریر، تاریخ الرسل والملوک  
 ابن کثیر، اسماعیل بن کثیر، البدایہ والنہایہ  
 قاضی عیاض بن موسیٰ، کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ  
 شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مدارج النبوة  
 مولانا صفی الرحمن مبارکپوری، الریحۃ المختوم  
 شبلی نعمانی، سیرت النبی ﷺ  
 سید سلیمان ندوی، خطبات مدراس  
 سید سلیمان ندوی، رسول رحمت ﷺ  
 قاضی سلیمان منصور پوری، رحمت للعالمین  
 اکبر شاہ نجیب آبادی، تاریخ اسلام  
 معین الدین ندوی، تاریخ اسلام  
 مودودی، سید ابوالاعلیٰ، سیرت سرور عالم ﷺ





مولانا نعیم صدیقی، محسن انسانیت ﷺ  
ڈاکٹر خالد علوی، انسان کامل ﷺ  
مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، نبی رحمت ﷺ  
السہیلی، الروض الانف  
مہدی رزق اللہ، السیرۃ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ  
ڈاکٹر ثناء احمد فاروقی، سیرت کے اولین مصنفین  
مولانا معین الدین ندوی، خلفائے راشدین  
عبد الشکور لکھنوی، خلفائے راشدین  
محمود احمد ظفر، خلفائے راشدین  
مولانا سعید اکبر آبادی، سیدنا صدیق اکبرؓ  
محمد حسین ہیکل، حضرت عمر فاروقؓ  
علامہ شبلی نعمانی، الفاروقؓ  
طالب الہاشمی، سیرۃ خلیفۃ الرسول  
قمر احمد عثمانی، سیدنا عثمان ذوالنورین  
مولانا محمد نافع ہنودنا فح (حصہ اول، دوم)  
مولانا ابوالحسن علی الحسنی ندوی، المرتضیٰ  
مولانا محمد نافع، سیدنا علی المرتضیٰ  
سید اسعد گیلانی، رسول اکرم ﷺ کی حکمت انقلاب  
ادریس کاندھلوی، سیرۃ المصطفیٰ ﷺ  
نفقوش  
سیارۃ



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-111	Islamiat / Ethics	2	I
Year	Discipline		
1	Botany, Zoology, Mathematics-I,II, Statistics-I,II,III, Chemistry-I,II, Applied Psychology, Business Administration, Commerce, Economics, English, Sociology & Sociocultural Studies, Social Work, Political Science, Physics, Mass Communication, History, Education (Elementary), Education (Secondary), Urdu		

### اهداف و مقاصد

- ۱۔ طلبہ کو قرآن و حدیث سے استفادہ کے قابل بنانا۔
- ۲۔ طلبہ کے قلوب و اذہان میں قرآن و سنت کی روح اور علم کو رائج کرنا۔
- ۳۔ طلبہ میں اسوہ شتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور خیر رسولؐ کا جذبہ پیدا کرنا۔
- ۴۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا فہم آسان بنانا اور طلبہ کی اسلامی بنیادوں پر تربیت کرنا۔
- ۵۔ امت مسلمہ کو درپیش عصر جدید کے چیلانجوں سے طلبہ کو آگاہ کرنا۔

### نصابی تفصیلات (تفصیل المنہج الدراسي)

#### ۱۔ القرآن الکریم

##### الف۔ قواعد لغة القرآن (قرآنی گرامر)

الماضی و المستقبل، الأفعال والنهی، الجملة الاسمية والفعلية، المصروف الإضافی والتوصیفی، الضمان وحروف الجر  
 ب۔ منتخب قرآنی آیات کا لغوی و بامعنی ترجمہ و تشریح (ضمیمہ "الف")  
 (ترجمہ و شرح نخبہ من الآيات القرآنية لغة وسلاسة: ملحق "الف")

#### 2۔ الأحادیث النبوی

مختار احادیث نبویہ کا لغوی و بامعنی ترجمہ اور تشریح (ضمیمہ "ب")  
 (ترجمہ و شرح نخبہ من الاحادیث النبویة لغة وسلاسة: ملحق "ب")

نوٹ: اساتذہ کرام آیات و احادیث کی تعلیم و تدریس کے دوران لغوی و بامعنی ترجمہ و تشریح کا اہتمام کریں۔



### 3. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم

- (۱) مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت (اہمیت و ضرورت دراستہ السیرة)
- (۲) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انتخاب (الحكمة التورية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم)  
(ہجرت، مہاجرات، بیثاقی، مدینہ، صلح حدیبیہ، غزوہ بدر، غزوہ احد)
- (۳) تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت کا نبوی مہیا ج اور عملی نمونے  
(المسج النبوی لتكوين الشخصية و السيرة و تزكية النفس و نماذجها الفعلية)  
(عشر مشرق، صحاح الوثائق، احوال النبی)
- (۴) عقلی، اجتماعی و معاشرتی اور اسوۂ حسنہ (تكوين المجتمع و المعاشرة في ضوء الاسوة الحسنة)

### 4. اسلامی تہذیب و ثقافت (الحضارة و الثقافة الإسلامية)

- (الف) اسلامی تہذیب و ثقافت کے خصائص  
توحید، روحانیت، تصور مسوئیت، انسانی عقلمت و مساوات، عالمگیر اخوت،  
عدل اجتماعی، اخلاقی اقدار، انسانی حقوق، رواداری، اعتماد و توازن
- (ب) اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات
- (ج) مغربی تہذیب و ثقافت اور اسلام  
(i) مغربی تہذیب و ثقافت کے خصائص و اثرات  
(ii) تہذیبوں کے تصادم کے نظریے کا تنقیدی جائزہ

5- معروضی سوالات: پورے نصاب پر مشتمل ہوں گے۔



### ضمیمہ الف: منتخب آیات قرآن

#### (ملحق الف: نخبہ من آیات القرآن)

(i) البقرة (۲) الآية ۵ تا ۲۸۳ و ۲۸۴ تا ۲۸۶ (ایمانیات)

اللَّهُ [۱] ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ [۲] الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ [۳] وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ [۴] أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [۵]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَرْضِ الَّتِي بَاعُوا لِنَفْسِهِمْ أَوْ تَخَفُوهَ يُحَايِبُهُم بِهَا اللَّهُ قُبُورُهُمْ يُشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [۲۸۴] آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَعْرِفُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ [۲۸۵] لَا يَخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُ إِذَا عَاهَدَ إِنَّمَا يَخْشَى الْفِتْنَةَ سَخَطَ مَا اكْتَسَبَتْ وَتَمَّا لَا تَرْجُوا زَيْنًا أَنتُمْ نَجِسَتْ وَإِن تَنبَغْنَا لَو أَضْحَكُنَّ عَلَىٰ عُنُقِنَا وَإِن يَمُوتَا سَخَطَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُخَلِّفْنَا مَا كَفَرْنَا لَنَّا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ [۲۸۶]

(ii) الاحزاب (۳۳) الآية ۶، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹

(تخصصات نبویہ: اسوہ حسنہ، ختم نبوت، مقام رسالت، ناموس و رسالت، ازواج النبی)

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ النَّفْسِ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَوْلَىٰ بِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا [۶]

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [۲۱] يٰۤأَيُّهَا النَّبِيُّ لَسَنَّا يُسْعِنَ كَاتِبِينَ مِنَ النِّسَاءِ إِن تَقِيْنَنَّ فَلَا تَخْصَمَنَّ بِالْقَوْلِ فَتَمْنَعَ الْإِنْسَانُ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا [۳۲] وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَاطْعَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [۳۳]

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَحَافِظَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا [۴۰]

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [۵۶]



إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا [57]  
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [58]  
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ أُوْاجِلُ وَبَيْتِكُ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرَسُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ جَلَابِيبِهِمْ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ  
يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [59]

(iii) الفتح (۴۸) الآية : ۲۹ (رسالت محمدیہ اور خصائص اصحاب رسول)

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ  
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ  
فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازْرَعَهُ فَاسْتَعْلَفَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْبِهِ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغِظَ  
بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [29]

(iv) الصف (۶۱) الآية : ۱۴ (بشارت بعثت ختم المرسلین، ہجرت، جہاد، نصرت اور غلبہ دین)

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [1] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ  
مَا لَا تَفْعَلُونَ [2] كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ [3] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ  
فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بَنِيَّانِ مَرْضُوضٍ [4] وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ لِمَ  
تَعْلَمُونَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [5]  
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ  
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا يَسْحَرُ مِثْنًا [6]  
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [7]  
يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ [8] هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ  
رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ [9] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
هَلْ أَذِلَّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [10] تَوْفَعُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [11] يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  
وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمُسْكِنَّ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [12]  
وَأُخْرَىٰ تُجْزَوْنَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ [13] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا  
أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ  
أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَّا تِلْكَ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتَ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ  
فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ [14]



(v) الحجرات (٣٩) الآية: ١٨ تا ١٩ (ادب نبوی و معاشرتی احکام)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [1] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ [2] إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ [3] إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ [4] وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [5] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ [6] وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِيمٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرُّشِدُونَ [7] فَضَلَّ مِنَ اللَّهِ وَرِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [8] وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَجَانَبُوهَا الَّتِي تَنْبَغِي حَتَّى تَنْفِيَ إِلَى اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [9] إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [10] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُمُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [11] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ [12] يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [13]

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [14] إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ [15] قُلْ اتَّعَلَّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [16] يَمْشُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ [17] إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [18]





(vi) الألعام (٢) الآية: ١٥١ تا ١٥٣ (حقوق العباد)

قُلْ تَعَالَوْا أَنِزِلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ لَا تَقْتُلُوا  
أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لَا  
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [151] وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ  
الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ آوُوا الْكَيْلَ وَ الْيَمِينَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا  
إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَ لَوْ كُنَّا ذَا قُرْبَىٰ وَ بَعَثْنَا إِلَهُكُمْ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ [152] وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ  
ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [153]

(vii) الفرقان (٢٥) الآية: ٣٣ تا ٤٧ (آداب معاشرت)

وَ عِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا [63]  
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا [64] وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ  
عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا [65] إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا [66] وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ  
يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَرَامًا [67] وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي  
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا [68] يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
وَ يُخَلَّدُ فِيهِ مُهْتَمًّا [69] إِلَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا رَيْبَ لَكَ أَنَّ اللَّهَ سَلِيمٌ  
حَسِيبٌ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [70] وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا [71]  
وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا [72] وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ  
يَخْرُجُوا عَلَيْهَا ضَمًّا وَ عُمِيًّا [73] وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ  
وَ اجْعَلْ لَنَا صِلَةً لِّلْمُتَّقِينَ إِمَامًا [74] أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَ يُلْقَوْنَ فِيهَا زَوْجَةً وَ أَسْلَمًا [75]  
خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا [76] قُلْ مَا يَعْبُرُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ  
فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا [77]

(viii) النحل (١٦) الآية: ١٣ تا ١٤ (التفكير والتدبر)

وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَلَّ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ [12] وَ مَا ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ [13]  
وَ هُوَ الَّذِي مَسَخَّرَ الْبَحْرَ لِيَتَاكَلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِبًا وَ تَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حَبْلًا مَلَبَسُونَ بِهَا وَ تَرَى  
الْفُلَّكَ مَرَاجِعَ فِيهِ وَ لِيَتَعَفَّرَا مِنْ قُدْرَتِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [14]



### ضمیمہ ب: منتخب احادیث نبویہ

#### (ملحق ب: نخبہ من الأحادیث النبویہ)

- (۱) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لأمرى ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. (رواه البخاري ومسلم)
- (۲) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. (رواه البخاري)
- (۳) عن مالك بن انس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. (رواه مالك في الموطأ مراسلاً)
- (۴) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنى الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. (متفق عليه)
- (۵) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، قال: صدقت، قال: فعبينا له يسأله ويصدق، قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملكه وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال: ثم انطلق، فلبث ملياً ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبرئيل أتاكم يعلمكم دينكم. (رواه مسلم)
- (۶) عن شيرمة بن معبد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا الصبيان الصلوة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. أخرجه أبو داود والترمذي ولفظه: علموا الصبي الصلوة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر. (صحيح البخاري)





- (٤) عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. (رواه البخاري)
- (٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك طريقاً يلتبس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحققهم الملائكة وذكروهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. (رواه مسلم)
- (٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من أربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تسمع، ومن دعا لا يسمع. (رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه: مشكوة المصابيح)
- (١٠) عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزلزل قلما ابن آدم حتى يسئل عن خمس عن عمره لما لحاه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وما طاعل فيما علم. (جامع قمرى)
- (١١) عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد فريضة (دع الإيمان لليدي)
- (١٢) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع البتتين والصدّيقين والشهداء. (جامع الترمذي، سنن الدارمي، سنن دارقطني)
- (١٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من امتنع من يأتي يوم القيمة بصلوة وصيام وزكوة، و يأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، لأن فيه حسناته، فبل أن يقتص من عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. (مسلم: كتاب البر)
- (١٤) عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أنفل علىء برضع في ميزان الميزان يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يفض الفاحش البذيء (رواه الترمذي)
- (١٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيتن فقد أعطيت خير الدنيا والآخرة، قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً ولباً على البلاء صليراً وزوجة لا تبغي حياً في نفسها وماله (من سنن)
- (١٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المصريات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر ولعل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربوا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. (متفق عليه)
- (١٧) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (رواه مسلم)



- (١٨) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فنندلق اقتابه في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون، أي فلان ماشأنتك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم ولا آتية وأنهاكم عن المنكر وآتية. (رواه مسلم)
- (١٩) عن انس قال قال رسول الله والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لا خيه ما يحب لنفسه (متفق عليه)
- (٢٠) عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتواضعهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (متفق عليه)
- (٢١) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته فالأمام الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنهم وعبد الرجل راع عن مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته (متفق عليه)
- (٢٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلى ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه، ترك منه موضع لبننة، فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبننة، فكنت أنا سدوت موضع اللبننة، ختم بى البنيان وختم بى الرسل.. وفى رواية: فأنا اللبننة وأنا خاتم النبيين. (رواه البخارى)
- (٢٣) وعن انس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتى بامتى أبو بكر وأشد هم فى أمر الله عمر وأصد قهم حياء عثمان، وأقضاهم على، وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبى بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. (رواه احمد والترمذى، مشكوة المصابيح، باب مناقب العشرة)
- (٢٤) عن أبى بكر رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن على إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. (رواه البخارى)
- (٢٥) وعن عمران بن حصين رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتى قرنى ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم... (متفق عليه، مشكوة المصابيح، باب مناقب الصحابة)
- (٢٦) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: يا أيها الناس: إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فليبلغ الشاهد الغائب. (البیهقى، شعب الايمان، باب فى حفظ اللسان، فصل فى حفظ اللسان عن الفخر بالآباء).



### مبوزه كتب (الكتب المقترحة) Recommended Books

#### (عربي)

١. القرآن الكريم الله جلّ جلاله
٢. مشكوة المصابيح الخطيب التبريزي
٣. تفسير القرآن العظيم ابن كثير الدمشقي
٤. تفسير روح المعاني شهاب الدين محمود الألوسي
٥. في ظلال القرآن سيد قطب
٦. السيرة النبوية ابن هشام
٧. قصص النبيين (١-٥) ابو الحسن علي الندوي
٨. النحو الواضح في قواعد اللغة العربية (١-٦) مصطفى امين، علي الجارم
٩. دروس اللغة العربية دكتور فاء عبدالرحيم
١٠. دائرة المعارف الاسلامية باللغة العربية مجموعة من المؤلفين

#### انجليزي (English) انگریزي

11. The Holy Quran(Text, Translation & Commentary):Abdullah Yousuf Ali.
12. The Glorious Quran:Muhammad Marma Duke Pickthall.
13. The Message of Quran: Muhammad Asad (Leopold Weiss).
14. Sahih-al-Bukhari (English Translation) Muhammad Mohsin Khan.
15. Takalam-al-Arabiyyah (تکلم العربية) Arabic-English: Mahmud Ismaeel al-Seeni.
16. al-Mawrid (المورد) English - Arabic Dictionary: Munir al-Balabakki.
17. The Road To Makkah: Muhammad Asad (Leopold Weiss).
18. Quran, Bible & Science (القرآن والانجيل والعلم) Maurice de Bouccai.
19. Towards Understanding Islam (مبادئ الاسلام) Abul Ala Maudoodi.
20. Introduction to Islam (المدخل الى الاسلام): Dr. Muhammad Hamidullah.
21. Spirit of Islam (روح الاسلام): Syed Ameer Ali.
22. Purdah & Status of Woman in Islam (الحجاب) پرده: Abul Ala Maudoodi.
23. Etiquates of Life in Islam (آسان فقہ): Muhammad Yousuf Islahi.



24. Social Justice in Islam :Sayyid Qutb.  
اسلام میں عدل اجتماعی (العدالة الاجتماعية في الإسلام)
25. Islam in Theory & Practice :Maryam Jameela.(Margrate Marcus)  
اسلام ایک نظریہ ایک تحریک (الإسلام في النظرية و التطبيق)
26. Umar the Great: (عُمارُ): Shibli Nomani (Translated by Zafar Ali Khan)

Note: The books available in two or three languages

(Arabic,English, Urdu ( have been mentioned accordingly.)

#### Urdu (اردو)

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| ۱۔ معارف القرآن  | مفت محمد شفیع                        |
| ۲۔ تفہیم القرآن  | سید ابوالاعلیٰ مودودی                |
| ۳۔ تدریس قرآن  | امین احسن اصلاحي                     |
| ۴۔ ضیاء القرآن   | پیر کریم شاہ الازہری                 |
| ۵۔ معارف الحدیث  | محمد منظور نعمانی                    |
| ۶۔ ترجمان السنۃ  | بدر عالم میرٹھی                      |
| ۷۔ اللسان العربی   | محمد نعمان طشقندی (AIQU)             |
| ۸۔ قواعد القرآن (مختصر قرآنی عربی گریمر)                 | عبدالرحمن طاہر مدنی                  |
| ۹۔ تعلیم اللغة العربیة: مختصر القواعد (مختصر عربی گرامر) | ڈاکٹر مظہر معین                      |
| ۱۰۔ عربی کا معلم   | مولانا عبدالستار خان                 |
| ۱۱۔ عربی گرامر اینڈ ٹرانسلیشن                            | ایم ڈی چوہدری                        |
| ۱۲۔ مصباح اللغات (عربی، اردو و پشتوی)                    | عبدالحمید بلایوی...                  |
| ۱۳۔ سیرۃ النبی   | شبلی نعمانی، سلیمان ندوی             |
| ۱۴۔ التوحیق المختوم                                      | صفی الرحمن مبارکپوری                 |
| ۱۵۔ رحمة للعالمین  | محمد سلیمان منصور پوری               |
| ۱۶۔ انسان کامل   | ڈاکٹر خالد علوی                      |
| ۱۷۔ سیرۃ عائشہ   | سید سلیمان ندوی                      |
| ۱۸۔ سیر الصحابہ  | شاہ معین الدین ندوی                  |
| ۱۹۔ تاریخ اسلام  | شاہ معین الدین ندوی                  |
| ۲۰۔ اسماء النجوم   | حفیظ تائب                            |
| ۲۱۔ الثقافة الاسلامیة) تاریخ افکار و علوم اسلامی         | راغب الطباخ (ترجمہ: افتخار احمد خاں) |
| ۲۲۔ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی                  | سید ابوالاعلیٰ مودودی                |



عشرہ مبشرہ	۲۳۔	محمود احمد ظفر
تنقیدات	۲۴۔	سید ابوالاعلیٰ مودودی
اسلام اور مغرب کے تہذیبی مسائل	۲۵۔	سید قطب شہید ترجمہ ساجد الرحمن صدیقی
اسلامی نظریہ حیات	۲۶۔	پروفیسر خورشید احمد
اسلام کا معاشرتی نظام	۲۷۔	ڈاکٹر خالد علوی
اسلام اور جدید ذہن کے شبہات (شبہات حول الاسلام): محمد قطب	۲۸۔	
(Islam the Misunderstood Religion)		
معرکہ اسلام و جاہلیت	۲۹۔	صدر الدین اصلاحی
خطبات بہاولپور (Emergence of Islam)	۳۰۔	ڈاکٹر محمد حمید اللہ

\*\*\*\*\*

### **ETHICS (FOR NON-MUSLIMS)**

- 1- Definition of Ethics
- 2- Different concepts of Ethics (Ancient and contemporary)
- 3- Types of Ethics
  - a. Good Ethics
  - b. Bad Ethics
- 4- Importance of Ethics in Human Life
  - a. Individual Life
  - b. Family Life
  - c. Social Life
  - d. Importance of Ethics in Economic Life
  - e. Importance of Ethics in Politics
- 5- Ethical Teachings and Values in Different Religions
  - a. Hinduism
  - b. Buddhism
  - c. Zoroastrianism
  - d. Christianity
  - e. Judaism
  - f. Sikhism
  - g. Islam
- 6- Ethical Values of the above Religions
  - a. Truthfulness
  - b. Trustworthiness
  - c. Service to Humanity
  - d. Tolerance, Endurance
  - e. Respect for others
  - f. Cooperation, Mutual Help, selflessness
  - g. Justice (Social Justice, Economic Justice)



h. Equality

- 7- Concept of virtue and Evil in different religions.
- 8- Concept of “Flah” in Different Religions.
- 9- Attitude towards other Religions.

**Recommended Books:**

- 1- J.S. Mackeuzie, A Manual of Ethics
- 2- Harold H. Titus, Ethics for Today
- 3- B.A. Dar, Quranic Ethics
- 4- Hameedullah, Dr. Introduction to Islam
- 5- Ameer Ali Syed, The spirit of Islam

ادروکتب

غزالی لام

حفظ الرحمن جیلو ہاروی

سلیمان ندوی، سید

احیاء علوم الدین (اروٹر جرمہ مذاق العارفین)

اخلاق اور فلسفہ اخلاق

سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہشتم





Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-121	Islamic Studies-I	2	I
Year	Discipline		
1	Information Technology		

This course provides a comprehensive knowledge of Islam. It covers the basic beliefs and practices of Islam. This course is intended to familiarize students with a range of the most important Islamic beliefs, practices, and issues. It should equip them to recognize, understand and appreciate the different dimensions of Islam that they will encounter in their practical life. This course will enable the students to perform their worship in the manner prescribed by Allah. It will also make them aware of their duties as Muslims, including what is compulsory, what is permitted and what is forbidden for a Muslim in his day-to-day life. This course will also enable the students to appreciate the beauty and excellence of Islamic moral and social teachings and adopt them as their guidance in life thereby demonstrating values and attitudes necessary for a healthy and balanced lifestyle. The following topics will be covered in this course: Aqeedah, Tawheed, Risalah and Al-Akhira, Tahara, Salah, Sujood as-Sahw, Qadda (making up), Qasr (Shortening) and Jama(Joining), Sawm (Fasting), Salah at-Taraaweeh (The Night Prayer), Zakaah, Hajj, Jihad, Birth, Tehneek, Aqeeqah and Circumcision (Khitta), Death, The Funeral Prayer, Burial, Food and Dress/Adornment, Male/Female relationship, Social Interaction Between Men & Women, Marriage(Nikah), Rights and Obligations of the Spouses, The Law of Divorce, Inheritance, Major Sins (Kabirah), Crime & Punishment, Islamic Economics & Finance, Contemporary issues, Moral/ Manners / Tazkiyah Nafs, concepts of Taqwa, Tazkiyah, Ihsan, Huqooq ullah and Huqooq ul-Ibad.

### Text Book

Dr. Muhammad Hamidullah, Introduction to Islam

### Reference Material

- Marwan Ibrahim Al-Kaysi, Morals And Manners in Islam, The Islamic Foundation, Leicester, United Kingdom, 1991.
- Mohammad Yusuf Islahi, Etiquettes of Life In Islam, Markazi Maktabah Islami Publishers, New Delhi, 2003.
- Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, The Foundations of Islamic Studies.
- John Esposito, Islam: The Straight Path
- Abul A'la Mawdudi, Al-Jihad Fil Islam
- Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, Funeral Rites in Islaam
- Jamal A. Badawi, At-Taharah: Purity And State Of Undefilement
- Abul A'la Mawdudi, Human Rights in Islam
- Abul A'la Mawdudi, Ethical Viewpoint of Islam
- Muhammad Akram Khan, An Introduction to Islamic Economics
- Khurshid Ahmad, Studies in Islamic Economics



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-201	Contemporary Muslim World	3	III
Year	Discipline		
2	Islamic Studies		

## جدید دنیائے اسلام

جدید دنیائے اسلام کا تعارف، تاریخی پس منظر

جدید دنیائے اسلام کی تشکیل میں کارفرما عوامل

عالم اسلام کی جدید جغرافیائی تقسیم

دنیا کے نقشہ میں عالم اسلام کی اہمیت

۱۔ مشرق بعید

۱۔ انڈونیشیا ۲۔ ملیشیا ۳۔ برونائی

۲۔ برصغیر

۱۔ پاکستان ۲۔ بنگلہ دیش ۳۔ مشرق وسطیٰ

۱۔ افغانستان ۲۔ ایران ۳۔ ترکی

عالم عرب

عرب دنیا کی نئی جغرافیائی تقسیم

عراق۔ شام۔ لبنان۔ اردن۔ فلسطین۔ سعودی عرب۔ جمہوریہ یمن

جنوبی یمن۔ مملکت عمان۔ متحدہ عرب امارات۔ قطر۔ بحرین۔ کویت

براعظم افریقہ

مصر۔ سوڈان۔ صومالیہ۔ جمہوریہ جیبوتی۔ لیبیا۔ تونس۔ الجزائر۔ مراکش۔ موریتانیہ

سینی گال۔ مالی۔ گنی۔ گیمبیا۔ نائیجر۔ چاڈ۔ نائیجیریا

وسطی ایشیا

ازبکستان۔ آذربائیجان۔ تاجکستان۔ قازقستان۔ کرغزستان

جہاد اور آزادی کی تحریکیں، موجودہ سیاسی نظام، معاشی صورت حال، وسائل اور مسائل، امکانات

یورپ

البانیہ۔ بوسنیا۔ مقدونیہ





## مسلم اقلیتیں

ایشیا - افریقہ - یورپ - امریکہ - آسٹریلیا - بحر ہند اور بحر الکاہل  
مسلمانوں کے اجتماعی ادارے، آوائی سی، موثر عالم اسلامی، رابطہ عالم اسلامی، عرب لیگ، درپیش سیاسی، معاشی، معاشرتی چیلنجز،  
افغانستان، عراق، چیچنیا، کشمیر

## مجوزہ کتب

یا قوت حموی، معجم البلدان  
ڈاکٹر غلام جیلانی برق، معجم البلدان (ترجمہ و اضافہ)  
محمد رابع ندوی، جزیرۃ العرب  
ثروت صولت، ترکی اور ترک  
خلیل احمد حامدی، ترکی قدیم و جدید  
عباد اللہ اختر، بغداد  
عباد اللہ اختر، دمشق  
نصر اللہ غلزئی، افغانستان ماضی اور حال کے آئینے میں  
نجلاء عز الدین، عرب دنیا ماضی، حال، مستقبل (ترجمہ ڈاکٹر محمود حسین)  
ذکی نجیب محمود، مصر (ترجمہ ہاشمی فرید آبادی)  
ڈیٹس سی سمیٹھ، انڈونیشیا (ترجمہ ابوالحسن نعیمی)  
ہیلن ہنکلی، ایران (ترجمہ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید)  
بیچہ لوجائے، عراق (ترجمہ محمد ہادی حسین)  
غلام جیلانی برق، عالم اسلام  
صلاح الدین ناسک، جدید عالم اسلام  
فیض احمد شہابی، مشرقی یورپ میں مسلمانوں کا عروج و زوال  
محمد ابوالنصر، مسلمانوں کی تہذیب  
عطاء الرحمن، سوویت یونین کا زوال  
ثروت صولت، ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ  
ڈاکٹر غلام جیلانی برق، یورپ اور اسلام کے احسان  
ڈاکٹر غلام جیلانی برق، الحاد مغرب اور ہم  
ابوالحسن علی ندوی، مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش



ابوالحسن علی ندوی، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر  
سید قطب شہید، اسلام اور مغرب کے تہذیبی مسائل  
سید طفیل احمد، مسلمانوں کا روشن مستقبل  
ثروت صولت، دنیا میں مسلم اقلیتیں  
ادارہ معارف اسلامی، مسلم دنیا  
دانش گاہ پنجاب لاہور، اردو دائرہ معارف اسلامیہ (متعلقہ حصے)

A.K. Broohi, Islam in the Modern World

M. Khalil, The Arab States & the Arab league

Proceeding (P.U.Pb), International Islamic Colloquium 1957-58

Surop Pb. (London), The Middle East & North Africa

Relevant Portions, Encyclopedia of Britannica

Relevant Portions, Encyclopedia of Americana

Relevant Portions, Encyclopedia of Islam



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-202	Fiqh-I	3	III
Year	Discipline		
2	Islamic Studies		

### متن فقہ - I

- طہارت : طہارت کے معنی و اہمیت، نجاست کی اقسام، موجبات وضو، وضو کے ارکان، موزوں پر مسح، نواقض وضو، موجبات غسل، فرائض و سنن غسل، تیمم کی تعریف، مشروعیت اور طریقہ
- نماز : نماز کے اوقات، اذان و اقامت، نماز کی شرائط، فرائض، واجبات اور سنن، وتر، قصر نماز، نماز جمعہ، نماز عیدین، روزہ : رویت ہلال، روزے کا رکن، روزے کے مقاصد، روزے کی قضا، کفارہ اور فدیہ، تراویح اور اعتکاف
- زکوٰۃ : زکوٰۃ کے معنی و مفہوم، زکوٰۃ کے وجوب اور ادائیگی کا وقت، نصاب اور شرح، نقدی پر زکوٰۃ، مال تجارت پر زکوٰۃ، زمینی پیداوار پر زکوٰۃ، جانوروں پر زکوٰۃ، زکوٰۃ کے مصارف، صدقہ فطر، زکوٰۃ اور اس کے عصری مسائل
- حج : حج اور عمرہ کی تعریف، حج اور عمرہ کی شرائط و موانع، میقات، حج اور عمرہ کے ارکان و سنن، حج کی اقسام، حالت احرام میں ممنوعات اور ان کا کفارہ، عمرے کا طریقہ
- مقررہ کتاب
- ابوالحسن احمد بن محمد القدوری، مختصر القدوری
- مجوزہ کتب

الکاسانی علاء الدین ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع  
ابن قدامہ، موفق الدین، عبد اللہ بن احمد، المغنی  
ابن رشد، محمد بن احمد، بدایۃ المجتہد  
الشرینی، محمد، الخطیب، مغنی المحتاج  
المرغینانی، محمد بن ابی بکر، الہدایہ  
ابن ہمام، کمال الدین، محمد بن عبد الواحد، فتح القدر  
البھوئی، منصور بن یونس بن ادیس، کشاف القناع عن متن الاقناع  
ابن شہاب الدین الرملی، نہایۃ المحتاج  
ڈاکٹر وحیدہ الزہلی، الفقہ الاسلامی و ادلتہ



عبدالرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الاربعه  
الشافعي، محمد بن ادريس، الرسالة  
البرزدوي، فخر الاسلام علي بن محمد، الاصول  
ابوبكر الجصاص، الفصول في الاصول  
التفتنازاني، سعد الدين مسعود، شرح التوضيح  
امام غزالي، ابو حامد، محمد بن محمد، المستصفى  
امام شاطبي، ابو اسحق، ابراهيم بن موسى، الموافقات  
ملا جيون، محمد بن احمد، نور الانوار  
الشاشي، اسحاق بن ابراهيم، اصول الشاشي  
ابوزهره، اصول الفقه  
محمد يوسف موسى، تاريخ الفقه الاسلامي  
تقي اميني، فقه اسلامي كا تاريخي پس منظر  
ايضاً، اجتهاد



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-203	Islamic History-I	3	III
Year	Discipline		
2	Islamic Studies		

### تاریخ اسلام-I

(الف) عہد خلافت راشدہ

خلافت راشدہ کے خصائص، فتوحات، دعوت اسلامی کا فروغ، اشاعت اسلام، اسلامی تہذیب و ثقافت کا غلبہ، عہد خلافت راشدہ کا اسلامی معاشرہ، عجمی اقوام کا قبول اسلام، اثرات و نتائج، ثقافتی سرگرمیاں، نظام حکمرانی، فلاحی اقدامات، معاشرتی و ثقافتی سرگرمیاں، داخلی اور خارجی چیلنجز۔

(ب) عہد بنی امیہ

بنو امیہ کا عروج، فتوحات، عہد اموی کے خصائص، علوم اسلامی کی تدوین، علمی، معاشی اور ثقافتی سرگرمیاں، اسباب زوال

(ج) عہد بنی عباس

بنو عباس کا عروج، انتظام سلطنت، علوم و فنون کی ترقی، فلسفہ و کلام کا فروغ، فقہ اسلامی کی تدوین، کتب حدیث کی تدوین، مختلف مکاتب فکر و باطلہ، عہد بنو عباس کا معاشرہ اور اس کے خصائص، بنو عباس کا عروج و زوال، مختلف خاندانوں کی حکومت، سقوط بغداد، بنو عباس کے عروج و زوال کا تنقیدی جائزہ۔

مجوزہ کتب

الطبریؒ، ابن جریر، تاریخ الرسل والملوک

ابن کثیرؒ، اسماعیل بن کثیر، البدایہ والنہایہ

قاضی عیاضؒ، بن موی، کتاب الشفاء، تعریف حقوق المصطفیٰ

شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مدارج النبوة

مولانا صفی الرحمن مبارکپوری، الریحۃ المختوم

شبلی نعمانیؒ، سیرت النبی ﷺ

ندوی، سید سلیمان، خطبات مدراس

ندوی، سید سلیمان، رسول رحمت ﷺ

منصور پوری، قاضی سلیمان، رحمت للعالمین

آبادی، اکبر شاہ نجیب، تاریخ اسلام

ندوی، معین الدین، تاریخ اسلام

مودودی، سید ابوالاعلیٰ، سیرت سرور عالم ﷺ

صدیقیؒ، مولانا نعیم، حسن انسانیت ﷺ



ڈاکٹر خالد علوی، انسان کامل ﷺ  
مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، نبی رحمت ﷺ  
السہیلی، الروض الانف  
مہدی رزق اللہ، السیرۃ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ  
ڈاکٹر ثناء احمد فاروقی، سیرت کے اولین مصنفین  
مولانا معین الدین ندوی، خلفائے راشدین  
عبدالشکور لکھنوی، خلفائے راشدین  
محمود احمد ظفر، خلفائے راشدین  
مولانا سعید اکبر آبادی، سیدنا صدیق اکبرؓ  
محمد حسین ہیکل، حضرت عمر فاروقؓ  
علامہ شلی نعمانی، الفاروقؓ  
طالب الہاشمی، سیرۃ خلیفۃ الرسول  
قمر احمد عثمانی، سیدنا عثمان ذوالنورین  
مولانا محمد نافع، فوائدنا فتح (حصہ اول، دوم)  
مولانا ابوالحسن علی الحسنی ندوی، المرتضیٰ  
مولانا محمد نافع، سیدنا علی المرتضیٰ،  
رسالہ، نقوش (رسول نمبر)  
ابوزہرہ، اسلامی مذاہب، تاریخ الاسلام سیاسی  
تمدن عرب، گستاوی بان،  
غلام جیلانی، برق، یورپ پر اسلام کے درخشاں پہلو  
مصطفیٰ سہابی،

کرد علی، مترجم، اسلام اور عربی تمدن، Making of Humanity



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-204	Islamic History-II	3	IV
Year	Discipline		
2	Islamic Studies		

## تاریخ اسلام-II

تاریخ کی ضرورت و اہمیت

مسلم مؤرخین اور ان کی کتب تاریخ کا تعارف

(طبری، ابن کثیر، ابن اثیر، ابن خلدون، خانی خان، ضیاء الدین برنی، شبلی نعمانی)

(الف) سقوط بغداد کے بعد دنیائے اسلام

عہد سلاطین، ایل خانی، تیموری، صفوی خاندان

(ب) ترکان عثمانی

ترکان عثمانی اقتدار میں کارہائے نمایاں، امتیازی خصائص، ترکان عثمانی کا زوال اور اس کے اسباب

(ج) تاریخ ہند

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد، عہد سلاطین، عہد مغلیہ، مغلیہ سلطنت کا زوال

## مجوزہ کتب

ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الکبریٰ

الطبری، محمد بن جریر، تاریخ الرسل والملوک

ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ

ابن کثیر، ابوالفداء، اسماعیل بن کثیر، البدایہ والنہایہ

ابن اثیر، ابوالحسن علی، الکامل فی التاریخ

ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون

خانی خان، منتخب الباب

ضیاء الدین برنی، تاریخ فیروز شاہی

ابوالقاسم فرشتہ، تاریخ فرشتہ

اکبر شاہ نجیب آبادی، تاریخ اسلام

مولانا معین الدین ندوی، تاریخ اسلام

سعید احمد اکبر آبادی، مسلمانوں کا عروج و زوال

ابوالحسن علی ندوی، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر

شیخ اکرام، آب کوثر



ایضاً، رود کوثر

ایضاً، موج کوثر

ہاشمی فرید آبادی، تاریخ پاک وہند

ثروت صولت، ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ

عزیز احمد، دولت عثمانیہ

عزالدین، دنیائے عرب

Symond, The Making of Pakistan

Inamullah Khan, World Muslim Gazetteer

---





Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-205	Tafseer-III	3	IV
Year	Discipline		
2	Islamic Studies		

### تفسير-III

I- سورة المائدة

II- سورة الاحزاب

☆ لفظی ترجمہ ☆ شرح مفردات ☆ تفسیر ☆ آیات الاحکام

### مجوزہ کتب

طبری، محمد بن جریر، جامع البیان عن تاویل ای القرآن

رازی، محمد بن عمر، مفتاح الغیب

زمخشري، محمود جارا اللہ، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوه التاویل

ابوبکر حصص، احکام القرآن

ابن العربی، احکام القرآن

ابن کثیر، ابوالفداء، اسماعیل بن کثیر، تفسیر القرآن العظیم

علامہ آلوسی، سید محمود، روح المعانی

رضا، سید رشید، تفسیر المنار

سید قطب، فی ظلال القرآن

تھانوی، اشرف علی، بیان القرآن

عثمانی، شبیر احمد، تفسیر عثمانی

دریابادی، عبدالمجید، تفسیر القرآن الحکیم

آزاد، ابوالکلام، ترجمان القرآن

محمد شفیع، مفتی، معارف القرآن

کاندھلوی، مولانا محمد ادریس، معارف القرآن

مودودی، سید ابوالاعلیٰ، تفہیم القرآن

حقانی، مولانا عبدالحق، تفسیر حقانی

اصلاحی، مولانا امین احسن، تدریس قرآن

کرم شاہ، پیر محمد، ضیاء القرآن



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-206	Islam and Modern Political Thoughts	3	IV
Year	Discipline		
2	Islamic Studies		

### اسلام اور جدید سیاسی افکار

تعارف، تعریف، وسعت، حدود  
مسلم و غیر مسلم سیاسی مفکرین کے جدید سیاسی افکار کی مختصر تاریخ  
افکار و مختصر تعارف، روسو، کارل مارکس، میکاوی  
ریاست، ریاست کے عناصر، اقتدار اعلیٰ، اقسام حکومت، انتظامیہ، عدل، متفقہ کا باہمی تعلق، تقسیم اختیارات، دستور و قانون  
اسلامی تصور ریاست و حکومت، اقتدار اعلیٰ کا اسلامی تصور، اسلام میں قانون سازی، عہد نبوی اور عہد خلافت راشدہ کا نظام حکومت  
مسلم سیاسی مفکرین:

فارابی، الماوردی، علامہ ابن خلدون، امام غزالی، ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، علامہ اقبال  
جدید سیاسی افکار کا اسلام کی روشنی میں تنقیدی مطالعہ  
حزب اقتدار و حزب اختلاف، سیاسی جماعتوں کا تصور، خلافت و جمہوریت، فلاح ریاست، پارلیمنٹ کے حدود و قیود  
جمہوریت، نیشنل ازم، سوشلزم، مارکسزم

### مجوزہ کتب

الماوردی، الاحکام السلطانیہ  
ابن خلدون، مقدمہ ابن خلدون  
ابن تیمیہ، السیاسة الشرعیہ  
شاہ ولی اللہ، ازالۃ الخفاء  
ڈاکٹر حمید اللہ، عہد نبوی میں نظام حکمرانی  
ایضاً، رسول کریم کی سیاسی زندگی  
مولانا حامد انصاری، اسلام کا نظام حکومت  
مولانا مودودی، اسلامی ریاست  
ایضاً، خلافت و ملکیت  
رشید احمد، مسلمانوں کے سیاسی افکار  
مولانا امین احسن اصلاحی، اسلامی ریاست  
مولانا گوہر رحمن، اسلامی سیاست

Dr. Hamidullah, Muslim Conduct of State

H.K.Sherwani, Studies in Muslim Political Thought

H.J. Laski, A Grammar of Politics

Louis V., Modern Political Philosophies and What They Mean



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-221	Islamic Studies-II	2	IV
Year	Discipline		
2	Information Technology		

The objective of this course is to impart an understanding of the fundamental principles and teachings of Islam through study of selected verses of the Quran and Prophetic Sayings. It also includes the important facets of the Prophet's life and salient features of Islamic Civilization. It will provide appreciation of other prominent religions, systems of ethics and cultures to prepare students to survive in international and multicultural work place. This course introduces students to the basic teachings of Islam so that they can understand the rationale behind Islamic beliefs and practices. The following topics will be covered in the course: Basic sources of teaching, beliefs and their impact on human life, obligation to God, obligations to fellow human beings, and other related issues.

**Text Book**

Dr. Muhammad Hamidullah, Introduction to Islam

**Reference Material**

Marwan Ibrahim Al-Kaysi, Morals And Manners in Islam, The Islamic Foundation, Leicester, United Kingdom, 1991.

Mohammad Yusuf Islahi, Etiquettes of Life In Islam, Markazi Maktabah Islami Publishers, New Delhi, 2003.

Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, The Foundations of Islamic Studies.

John Esposito, Islam: The Straight Path

Abul A'la Mawdudi, Al-Jihad Fil Islam

Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, Funeral Rites in Islaam

Jamal A. Badawi, At-Taharah: Purity And State Of Undefilement

Abul A'la Mawdudi, Human Rights in Islam

Abul A'la Mawdudi, Ethical Viewpoint of Islam

Muhammad Akram Khan, An Introduction to Islamic Economics

Khurshid Ahmad, Studies in Islamic Economics



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-301	Hadith-III	3	V
Year	Discipline		
3	Islamic Education		

## حدیث نبوی-II

- ☆ معاملات کے ضمن میں محمد فواد عبدالباقی کتاب اللؤلؤ والمرجان کی مندرجہ ذیل کتب کے ابتدائی دس دس ابواب
- ۱۔ کتاب البیوع
  - ۲۔ کتاب الامارہ
  - ۳۔ کتاب الجہاد
  - ۴۔ کتاب البر والصلہ
  - ۵۔ مشکوٰۃ المصابیح کی کتاب الآداب کے پہلے دس ابواب کی پہلی پہلی حدیث
  - ۶۔ ریاض الصالحین کی کتاب الفصائل کے پہلے تین ابواب
- مقررہ کتب

عبدالباقی، محمد فواد، اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیہ الشیخان  
التبریزی، محمد بن عبد اللہ الخطیب، مشکوٰۃ المصابیح  
النووی، یحییٰ بن شرف، ریاض الصالحین

## مجوزہ کتب

- ۱۔ العسقلانی، ابن حجر، احمد بن علی، فتح الباری
- ۲۔ نووی، یحییٰ بن شرف، شرح نووی (الجامع الصحیح مسلم)
- ۳۔ انور شاہ کشمیری، فیض الباری
- ۴۔ عثمانی، شبیر احمد، فتح الملہم
- ۵۔ ملا علی قاری، علی بن سلطان، المرقاۃ شرح مشکوٰۃ
- ۶۔ کاندھلوی، محمد ادریس، التعلیق الصبیح شرح مشکوٰۃ المصابیح
- ۷۔ سہارنپوری، مولانا غلیل احمد، بذل المجہود شرح سنن ابی داؤد
- ۸۔ ابو عبد الرحمن شرف الحق، عون المعبود شرح سنن ابی داؤد
- ۹۔ بنوری، مولانا یوسف، معارف السنن شرح سنن الترمذی
- ۱۰۔ علامہ عینی، بدر الدین، عمدۃ القاری
- ۱۱۔ ابن الاثیر، مبارک بن محمد، جامع الاصول



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-302	Fiqh-II	3	V
Year	Discipline		
3	Islamic Education		

## فقہ - II

(حصہ اول)

### تاریخ فقہ اسلامی

تاریخ فقہ اسلامی کی ضرورت و اہمیت  
 فقہ اسلامی رسول کریم ﷺ کے دور میں  
 صحابہ کے دور میں  
 دور تابعین اور تبع تابعین  
 فقہ عہد عباسی میں  
 تدوین فقہ - اصول فقہ کی تدوین  
 اہل الرائے اور متکلمین کی مساعی  
 فقہی مذاہب اور ان کا طریقہ استنباط - اختلاف فقہاء

(حصہ دوم)

### فقہ الاسرة

الہدایۃ کی مندرجہ ذیل کتب کے ابواب

کتاب النکاح

باب فی الاولیاء والاکفاء

باب المہر

کتاب الرضا

کتاب الطلاق

باب طلاق فی السنۃ، باب طلاق المریض، باب الرجعة، باب الایلاء، باب الخلع، باب الطہار، باب العدة

مقررہ کتاب

مسلم فیملی لاء آرڈیننس

المرغینانی، ابوبکر، بن علی، کتاب الہدایۃ، جلد دوم



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-303	Islam & Modern Social Thought	3	V
Year	Discipline		
3	Islamic Education		

### اسلام اور جدید معاشرتی افکار

معاشرے کا آغاز و ارتقاء کا مغربی و اسلامی تصور  
 اسلام کی معاشرتی تعلیمات  
 اسلام کا تصور انسان  
 فرد اور معاشرہ \_\_ باہمی تعلق  
 اسلامی معاشرہ اور اس کے امتیازی خصائص  
 معاشرتی ادارے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں  
 (خاندان، مدرسہ، مسجد، بازار)  
 ثقافت، تہذیب، حضارۃ، تمدن، مدنیت  
 اسلام کا تصور ثقافت  
 ثقافتی و تفریحی سرگرمیاں اور اسلامی تعلیمات  
 اسلامی معاشرہ کی اصلاح، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، الحسبہ فی الاسلام  
 جدید معاشرتی مسائل اور ان کا اسلامی حل  
 کثرت آبادی، خاندانی نظام، میڈیا، عورت کا مقام، حقوق نسواں، حقوق و فرائض، عورت کا معاشرتی کردار  
 جدید معاشرتی افکار اور مغربی معاشرہ کا اسلام کی روشنی میں تنقیدی جائزہ  
 انفرادیت، افادیت، اسراف زر

### مجوزہ کتب

علامہ ابن خلدونؒ، مقدمہ ابن خلدون  
 امام غزالیؒ، احیاء علوم الدین  
 شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغۃ  
 محمد سرور، شاہ ولی اللہ کے عمرانی نظریات  
 سید قطب شہید، العدالة الاجتماعیۃ فی الاسلام  
 سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ، اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات  
 سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ، حقوق الزوجین





Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-304	Tafsir-IV	3	VI
Year	Discipline		
3	Islamic Education		

#### تفسیر-IV

مواریث

وراثة (Inheritance)

سورة النساء آیات ۱۱، ۱۲، ۱۷۶

سرقة (Theft)

سورة المائدة آیت ۳۸

حراہ (Robbery)

سورة المائدة آیت ۳۳

شرب خمر (Use of Alcohol)

سورة المائدة آیت ۹۰

زنا و قذف (Adultery & Qazf)

سورة النور آیات ۱ تا ۵

قصاص و دیات (Qisas & Diat)

سورة البقرة آیات ۱۷۸ ، ۱۷۹

سورة النساء آیات ۹۲ ، ۹۳

پاکستان میں حدود آرتھینس اور قصاص و دیات آرتھینس اور اس کے نفاذ کا تنقیدی مطالعہ

مجوزہ کتب:

محمد بن جریر طبری، الجامع البیان عن تاویل ای القرآن

رازی، محمد بن عمر، مفتاح الغیب

زنجیری، محمود جارا اللہ، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل

ابوبکر جصاص، احکام القرآن

ابن العربی، احکام القرآن

ابوالفداء اسماعیل بن کثیر، تفسیر القرآن العظیم

علامہ سید محمد آلوسی، روح المعانی





تھانوی، مولانا شرف علی، بیان القرآن  
عثمانی، علامہ شبیر احمد، تفسیر عثمانی  
مودودی، سید ابوالاعلیٰ، تفہیم القرآن  
کاندھلوی، مولانا محمد ادریس، معارف القرآن  
شفیع، مفتی محمد، معارف القرآن  
حقانی، مولانا عبدالحق، تفسیر حقانی  
اصلاحی، مولانا امین احسن، تدبر قرآن  
عودہ، عبدالقادر، التشریح الجنائی الاسلامی  
فقہ المواریت، محمد علی صابونی  
القرطبی، الجامع الاحکام القرآن  
الزحلی، وہبہ، تفسیر الاحکام



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-305	History & Principles of Hadith	3	VI
Year	Discipline		
3	Islamic Education		

### تاریخ و اصول حدیث

حدیث کے لغوی، اصطلاحی معانی و مفہوم

حدیث کی حجیت و اہمیت

فتنہ انکار حدیث

تاریخ تدوین حدیث

مشہور کتب احادیث کا تعارف

علم حدیث میں علماء بر صغیر کی خدمات

علم حدیث اور معاصر علماء کی مساعی (ڈاکٹر حمید اللہ، ڈاکٹر سیزگین، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی)

علم اصول حدیث کا تعارف

حدیث کی اقسام (راویوں کے اعتبار سے)

حدیث کی اقسام قوت و ضعف کے اعتبار سے (خبر مردود اور مقبول)

خبر مقبول کی اقسام

خبر مردود کی اقسام

راوی کی شرائط

جرح و تعدیل

راویوں کے طبقات

مقررہ کتب

گیلانی، مناظر احسن، تاریخ تدوین حدیث

عسقلانی، ابن حجر، شرح نخبة الفکر

مجوزہ کتب

السباعی، مصطفیٰ، السنة و مکانتها فی التشريع الاسلامی

صالح، صبحی، علوم الحدیث

الطحان، ڈاکٹر محمود، تیسیر مصطلح الحدیث

مودودی، سید ابوالاعلیٰ، سنت کی آئینی حیثیت

ڈاکٹر خالد علوی، حفاظت حدیث



امینی، مولانا تقی، حدیث کا درایتی معیار  
ڈاکٹر خالد علوی، اصول الحدیث - مصطلحات و علوم  
احمد امین، فجر الاسلام  
افتخار احمد بلخی، فتنہ انکار حدیث (حصہ اول، دوم اور سوم)  
شرف الدین عالمی، اضواء علی السنۃ المحمدیۃ  
ڈاکٹر حمید اللہ، صحیفہ ہمام بن منبہ  
ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی، دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینہ  
ڈاکٹر فواد سیزگین، تاریخ علوم میں تہذیب اسلامی کا مقام (ترجمہ: ڈاکٹر خورشید رضوی)  
اسحاق بھٹی، برصغیر اور علم حدیث  
ڈاکٹر سعد صدیقی، علم حدیث اور پاکستان میں اس کی خدمت

M.M. Azami, Studies In Hadith Methodology , CD on Al-Kutub al Tis'a



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-306	Dawa o Irshad	3	VI
Year	Discipline		
3	Islamic Education		

### دعوة وارشاد

- 1- دعوة، معنی و مفہوم، اغراض و مقاصد  
(الف) داعی کی صفات قرآن و سنت کی روشنی میں  
(ب) مدعوین کی اقسام  
دعوت کے جدید ذرائع
- 2- تاریخ دعوت  
(الف) دعوت اسوۂ انبیاء کی روشنی میں  
(ب) نبی اکرم ﷺ کا داعیانہ کردار  
(ج) دعوت عہد صحابہ میں (ہمہ گیر دعوت، مدافعانہ و جارحانہ جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، داعیانہ اوصاف)  
(د) تابعین کرام کی دعوتی کوششیں  
(ه) مجددین و صلحائے امت کی داستان دعوت
- 3- انیسویں اور بیسویں صدی میں عالم اسلام پر تہذیبی یلغار
- 4- بیسویں صدی میں احیاء اسلام کی تحریکیں  
(الف) جدید تحریکات  
(ب) جہادی تحریکات  
(ج) جدید معاشرتی تشکیل اور دعوتی امکانات  
(د) دینی مدارس کا کردار  
(ه) خانقاہی نظام دعوت و تربیت  
(ز) عصر حاضر میں سلسلہ ہائے تصوف اور اشاعت اسلام

### مجوزہ کتب

عبدالکریم زیدان، اصول الدعوة

جمہ النحوی، فقہ الدعوة



محمد سعید ابوطی، فقہ السیرہ

احمد غوثی، الدعوة الاسلامیہ --- اصولها ووسائلها

شیخ عبد الوہاب، قصص الانبیاء

ڈاکٹر محمد طیب النجار، تاریخ الانبیاء فی ضوء القرآن والسنة النبویة

شیخ محمد غزالی، تاریخ الدعوة الاسلامیہ

سید مودودی، تجدید و احیاء دین

الامام حسن البناء الشہید، رسالہ التعلیم

تکلیب ارسلان، حاضر العالم الاسلامی

الاستاذ العقاد، الاسلام فی قرن العشرین

ابوالحسن علی ندوی، تاریخ دعوت و عزیمت

مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، قصص القرآن

سید مودودی، سیرت سرور عالم ﷺ

علامہ شبلی و سید سلیمان ندوی، سیرت النبی ﷺ

امین احسن اصلاحی، دعوت دین اور اس کا طریق کار

محمد عبدالحی، تبلیغ کی حکمت

سید اسعد گیلانی، آنحضرت کی حکمت انقلاب

نعیم صدیقی، محسن انسانیت

پروفیسر عبدالغنی فاروق، ہم کیوں مسلمان ہوئے

مریم جمیل، اسلام ایک نظریہ، ایک تحریک

سید مودودی، مسئلہ قادیانیت

سید مودودی، مسئلہ قومیت

احمد فائز، طریق الدعوة فی ظلال القرآن

عدنان علی رضا النحوی، دور المنہاج الدبانی فی الدعوة الاسلامیہ، ریاض



Code	Subject Title	Cr. Hrs	Semester
ISE-307	Islamic Jurisprudence & its History	3	VI
Year	Discipline		
3	Islamic Education		

### اصول فقہ

الوجیز فی اصول الفقہ سے مندرجہ ذیل موضوعات

- ۱۔ تدوین اصول فقہ کا جمالی تعارف
- ۲۔ حکم شرعی  
حکم تکلیفی، حکم وضعی
- ۳۔ اہلیت اور اس کے عوارض
- ۴۔ فقہ اسلامی کے مآخذ  
(قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، استحسان، المصلحیہ مرسلہ، عرف، قول الصحابی، شرع من قبلنا)
- ۵۔ نسخ
- ۶۔ مقاصد الشریعہ

اصول الشاشی سے قرآن اور سنت کے اجزا

مقررہ کتاب

عبد الکریم زیدان، الوجیز فی اصول الفقہ  
اسحاق بن ابراہیم، شاشی، اصول الشاشی

مجوزہ کتب

- ۱۔ الشافعی، محمد بن ادريس، الرسالة
- ۲۔ البرز دوی، فخر الاسلام علی بن محمد، الاصول
- ۳۔ ابوبکر الجصاص، الفصول فی الاصول
- ۴۔ الفتا زانی، سعد الدین مسعود، شرح التوضیح
- ۵۔ امام غزالی، ابو حامد، محمد بن محمد، المستصفی
- ۶۔ امام شاطبی، ابوالفتح، ابراہیم بن موسیٰ، الموافقات
- ۷۔ ملا جیون، محمد بن احمد، نور الانوار
- ۸۔ الشاشی، اسحاق بن ابراہیم، اصول الشاشی



- ۹۔ ابو زھرہ، اصول الفقہ
- ۱۰۔ محمد یوسف مویٰ، تاریخ الفقہ الاسلامی
- ۱۱۔ تقی امینی، فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر
- ۱۲۔ ایضاً، اجتہاد
- ۱۳۔ Anderson J.N.D, Islamic Law in the Modern World
- ۱۴۔ Brohi A. K., Fundamental Laws of Pakistan
- ۱۵۔ Ahmed Hasan, Dr. Early Development of Islamic Jurisprudene.
- ۱۶۔ Ahmad Hasan, Dr., Principles of Islamic Jurisprudence.